

الاعین

تالیف

ڈاکٹر حکیم ابو یحییٰ محمد قاسم عینی بلوچ خاران
پس ایچ ڈی علوم الحدیث



بلوچی اکیڈمی پبلسٹری روڈ کوسٹ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

أَرْبَعِينَ عِنِّي

فِي الْفَضَائِلِ

حَكِيمُ الْبُخَارِيِّ عِنِّي بَلُورِجْ خَارَانِي پِي. اِيچ. بِي. بِلُومِ الْحَدِيثِ

اولی گالوار

داڑھ حکیم البریجی عینی بلوچ علوم الحدیث ۽ ڈاکٹر بزراں پی ایچ ڈی انت
 داڑھ فقہ حدیث اور تفسیر القرآن ۽ بازمیں عالم اے۔ عربی اور فارسی زبان ۽ زائنتکار
 اور بچی ادب ۽ دس شہہ نویس اے اکریں مستریں عالم بازم کم مس دتی سالی شہیدی
 زبان ۽ بنا دین ۽ باریکیان کارنت، اولے مسے خوش بختی انت، کہ داڑھ
 عینی ۽ متغین حدیثانی سرء اکریں مزائیں تحقیق ۽ کارے من بلوچی ۽ کتہہ واجہ
 حضور بخش صاحب جتوں ۽ رند واجہ عینی بلوچی ادب ۽ دھمی هواں درگفتار اور
 سر دغانیں شہہ نویس انت کہ واجہ کمر حدیث من بلوچی کہ ترینتخ انت، چورش
 بلوچی ادب ۽ مہنا حدیث نی اے ترینتخ (ترجمہ) وت یک نوخیں دروازغی
 انت کلاں ۽ جوانیں ترک ۽ ایش انت کہ اے کل هواں حدیث انت کہ اشانی
 سرء مختلفین فقہ اور فرقہ آں اختلاف اور ناہمی زانت، اور کل ایشاں صحیح یک
 انت، دھمی واجہ عینی صاحب ۽ اے دس دس کتہہ زیت کہ داڑھ بلوچی ترجمہ
 اولی ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰
 انت۔

ماہیت ۽ کنوں کہ مسے دھمی عالم اور زائنتکار دس مذہب اور بلوچی ۽
 زیات نزدیک کارنت

گلزار خانہ مری

جنرل سیکرٹری بلوچی اکادمی

تعارف

الحمد لله والمنه كما اس کی ذات کریم و رحیم نے اس ذرہ ناچیس کو
 ہستی بخششی اور علم کی خدمت سے عزت و عظمت بخشی۔ پھر یہ توفیق
 عطا کر دی کہ اس حقیر پر تقصیر نے صاحب لولاک زینت ارض و
 افلاک قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال
 باکمال جن کی شان ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
 سے عدوے چند چیدہ و برگزیدہ مسائل و فضائل کا ایک مجموعہ نمودہ
 مرتب کیا۔ یہ، علم حدیث میں سب سے پہلی تالیف ہے جو بلوچستان کی
 سب سے وسیع اور فصیح و بلیغ زبان بلوچی ترجمے کے ساتھ شائع کی گئی ہے۔
 امید و دعا ہے کہ رب العزت علم حدیث سے شوق و شغف رکھنے
 والے بلوچ اور بلوچی ادب و لسان کے شائقین حضرات کو اس خزینہ
 زرینہ سے مستفید و مستفیض کر دے !

یہ کتاب میٹھاب، انشاء اللہ تعالیٰ، ارباب علم و فضل و اصحاب
 درس و تدریس، علمائے دین و فضلاء و اعظین اور مبتدی و منتہی
 طلبہ و شائقین سب کیلئے مطابق درجہ و رتبہ یکساں کار آمد و مفید ہوگی۔
 جن سے یہ احقر فقر حسین تمناؤں و بلیغ دعاؤں کا مستحق و مستند ہے۔
 - ابو یحییٰ عینی -

الفهرس

صفحة	مضامين	نمبر شماره
١	خُطْبَةُ الْكِتَابِ :-	١
٢	البَابُ الْاَوَّلُ فِي فَضْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	٢
٣	البَابُ الثَّانِي فِي فَضْلِ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ	٣
٥	البَابُ الثَّلَاثُ فِي فَضْلِ الْاِسْلَامِ	٥
٦	البَابُ الرَّابِعُ فِي فَضْلِ كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ	٦
٧	البَابُ الْخَامِسُ فِي فَضْلِ كَلِمَةِ السَّبْحِ	٧
٨	البَابُ السَّادِسُ فِي فَضْلِ التَّحْمِيدِ لِلَّهِ تَعَالَى	٨
٩	البَابُ السَّابِعُ فِي فَضْلِ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ	٩
١١	البَابُ الثَّامِنُ فِي فَضْلِ الْوُضُوءِ	١١
١٢	البَابُ التَّاسِعُ فِي فَضْلِ الْاَذَانِ	١٢
١٣	البَابُ الْعَاشِرُ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ	١٣
١٤	البَابُ الْحَادِي عَشَرَ فِي فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ	١٤

١٥	الباب الثاني عشر في فضل الجمعة	١٣
١٤	الباب الثالث عشر في فضل صلوة الأبرار والصحابة	١٢
١٤	الباب الرابع عشر في فضل الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم	١٥
١٨	الباب الخامس عشر في فضل تعمير المسجد	١٤
١٩	الباب السادس عشر في فضل الصلوة في المسجد	١٤
	ومراتب المسجد	
٢١	الباب السابع عشر في فضل ذكر الله تعالى	١٨
٢٢	الباب الثامن عشر في فضل صوم رمضان	١٩
٢٣	الباب التاسع عشر في فضل صوم النفل	٢٠
٢٢	الباب العشرون في فضل ليلة القدر وعيد الفطر	٢١
٢٤	الباب الحادي والعشرون في فضل الحج	٢٢
٢٤	الباب الثاني والعشرون في فضل الأيام العشر الأولى من ذي الحجة	٢٣
	الأولى من ذي الحجة	
٢٨	الباب الثالث والعشرون في فضل الاصحية	٢٢
٢٩	الباب الرابع والعشرون في فضل الصدقة	٢٥
٣٠	الباب الخامس والعشرون في فضل كسب الحلال	٢٦
٣١	الباب السادس والعشرون في فضل الإنفاق على العيال	٢٤

٣٢	الباب السابع والعشرون في فضل السخاوة والاسخيا	٢٨
٣٣	الباب الثامن والعشرون في فضل الدعاء والبر بخلق الله	٢٩
٣٤	الباب التاسع والعشرون في فضل الجهاد في سبيل الله	٣٠
٣٥	الباب الثلاثون في فضل آيات الجهاد	٣١
٣٦	الباب الحادي والثلاثون في فضل الشهادة والشهادة في سبيل الله	٣٢
٣٨	الباب الثاني والثلاثون في فضل البكاء والحسين في سبيل الله	٣٣
٣٩	الباب الثالث والثلاثون في فضل النكاح	٣٤
٤٠	الباب الرابع والثلاثون في فضل الخلق الحسنة وحسن السلوك بالسيرة	٣٥
٤١	الباب الخامس والثلاثون في فضل التاجر الصدوق الأمين	٣٦
٤٢	الباب السادس والثلاثون في فضل الزيادة	٣٧
٤٣	الباب السابع والثلاثون في فضل العمارة	٣٨
٤٤	الباب الثامن والثلاثون في فضل عيادة المريض	٣٩
٤٥	الباب التاسع والثلاثون في فضل الاستغفار	٤٠
٤٦	الباب الأربعون في فضل أسماء الله الحسنى	٤١
٤٧	الحاتمة في فضل أولياء الله تعالى	٤٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هـ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى هـ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
 عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى هـ الَّذِي شَانَهُ وَمَا يُنطقُ عَنْ الْعَمَلِ
 إِنَّهُ هُوَ الْوَحْيُ يُوْحِي هـ وَعَلَى آلِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الَّذِينَ طَهَّرَهُمُ اللَّهُ تَطْهِيرًا
 وَعَلَى أَصْحَابِهِ الَّذِينَ هُمْ نُجُومُ الرُّشْدِ وَالْهُدَى هـ وَعَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ
 اصْطَفَى هـ وَعَلَى سَيِّدِنَا وَشَيْخِنَا السُّلْطَانَ عَبْدِ الْقَادِرِ الَّذِي هُوَ قَلْبُ
 الْأَقْطَابِ وَنُورِ الْوَرَى هـ

أَمَّا بَعْدُ

فَإِنِّي بَدَلْتُ جَهْدِي فِي تَأْلِيفِ هَذِهِ الصِّدْقَةِ الْمَرْغُوبَةِ وَالنَّحْفَةِ
 الْجَمُوعَةِ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَاءً أَنِّي
 أَكُونَ مُسْلِكًا فِي سَبِيلِكَ حَدِيثِ أَخْرَاجِهِ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
 عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَا حَدِّ الْعِلْمِ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الرَّجُلُ كَانَ فِقِيهًا قَالَ
 مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّيِّ أَرْبَعِينَ حَدِيثًا فِي أَمْرِ دِينِنَا بَعَثَهُ اللَّهُ فِقِيهًا وَكَتَبَ لَهُ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا هـ وَادْعُوا اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَقْبَلَهَا مِنِّي
 قَبُولًا جَمِيلًا وَيَجْعَلَهَا لِي وَلِوَالِدِي وَسَيِّدَتِي وَكِفِيلًا وَأُرِيدُ أَنْ تُرْحَمَ
 بِلِسَانِ قَوْمِي الْبَلُوشِيِّ لِيَكُونَ أَوَّلَ كِتَابٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الثَّوَابِ وَاللَّهُ الرَّجِيحُ وَالْأَبَدِيُّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

الباب الأول

في فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

اولی این باب به فضیلت ع جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم

مشه حضرت ابوهریره رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 روایت انت کہ بیشک جناب رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مات کہ
 فضیلت دیگر بوتہ من آء بہ نبیان و صر
 گون شش (درجہ) (۱)، دیگر بوتہ من آء
 گون جامع کلامی (پر معنی الفاظ)
 (۲) مدت دیگر بوتہ من آء گون بسم آء (۳)
 حلال کنگ بوتہ پمن غنیمتانی مال (۴)
 کنگ بوتہ پمن زمین مسیت و پاک کنوک،
 (۵) رسول بوتگن پر تمامی مخلوق آء (۶)
 و ختم کنگ بوتگنت گون من انبیاء ۳۰
 در کرتہ ایشراہ مسلم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَضِّلْتُ
 عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ أَعْلِيَّتُمْ
 جَوَامِعِ الْكَلِمِ وَلُصِرْتُ
 بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ
 وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا
 وَطَهْرًا قَدْ رُسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ
 كَأَفْتَةٍ وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ
 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ رَح

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ
أَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِينَ وَالْأَخْرَجُ
وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّاتِ وَالْأَخْرَجُ
وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ
وَمُشَفِّعٍ وَالْأَخْرَجُ

رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

شہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ
عندہ روایت انت کہ بیشک واجد بنی
کریم صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم
پر مات کہ بلا فخر من رسولانی مروگن
و بلا فخر من نبیانی خاتمن
بلا فخر من اولی این شفاعت کنون
من شفاعت قبول بوؤک انت

روایت کتره ایشرا امام دارمی

الْبَابُ الثَّانِي

فِي فَضْلِ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۞
دومی باب به فضیلت قرآن حکیم ۞

عَنِ الْمُعَاذِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ لَيْسَ وَالِدًا تَاجًا وَنَمَ الْقِيَامَةَ ضَوْئَهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بَيْوتِ النَّبِيِّاتِ لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ لَدَيْكُمْ عَمِلَ بِهَاذَا .
رواه
أحمد وأبو داود

شہ حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید پڑھے اور اس کے عمل کرے اسے تاج والے والد سے بہتر اور قیامت کے دن اس کا نور چاندی سے بہتر ہوگا۔
باز باوجود ان وقتیکہ (روح) بدنیہ
۞ گسانی تہاشمے در بیان ۞ بیت گراچہ
انت شمے خیال پر شخص ۞ کہ عمل کرت
برشی ہرا (یعنی قرآن مجید ہرا)
روایت کرتے ہیں امام احمد و امام ابو داؤد

الباب الثالث

فی فضل الاسلام

سیمی باب به فضیلت اسلام

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تَكْتُبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتُبُ لَهُ بِمِثْلِهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى

متفق عليه

شہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت انت گشتت کہ واجہ رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم پر مات کہ ہر کدیں شہادت اتی اسلام جو ان بداریت گڈ امر نیکیں کارے پکنت نبشنگ بیت پرانی دہ مہری آئی تاہیت مہری آئے ہر یک بدین پکنت نبشنگ بیت ہمانی مثل و مثل تا کہ پیش بیت اللہ تعالیٰ حضور

متفق علیہ

الباب الرابع

فی فضل کلمۃ الشہادۃ

چاری باب بہ فضیلت کلمہ شہادت

شہ حضرت عبادہ بن صامت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت انت
گشتت کہ من شہ واجہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عا شکت
کہ پر مات کہ ہر کس ع کہ اے شہادت
بدنت کہ نے بیچ معبود (برحقین)
بغیر شہ اللہ تعالیٰ ع
ع بیشک محمد، اللہ رسول انت
تو اللہ تعالیٰ حرام کنت برائی مرع
دوزخ ع

روایت کرتے ایشرا امام مسلم

عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ مَنْ شَهِدَ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا أَرْسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّارُ

رواه مسلم

الباب الخامس

في فضل كلمة السبّيح

پنجمی باب بہ فضیلت ء کلمہ سبّیح ء .

عَنْ أَنِّي هَرَيْرَةَ رَضِيَ
 اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ
 خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ
 حَبِيبَتَانِ عِنْدَ الرَّحْمَنِ
 ثَقُلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ
 سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ
 سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

شہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ ء روایت انت گشت کہ و اج
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 پر مات کہ دو کلمہ انت سبکات
 زبان ء سیر ء ...
 نہایت محبوب انت بہ اللہ تعالیٰ ء
 ادء . گران انت بہ شاہیم ء تہا .
 (یعنی) سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ
 سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ -

روایت کرتے ہیں امام بخاری .

البَابُ السَّادِسُ

فِي فَضْلِ التَّحْمِيدِ لِلَّهِ تَعَالَى

شَمْسِي بَابُ بِ فَضِيلَتِ عِ اللَّهِ تَعَالَى وَحَمْدِ شَاءَ .

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
 اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
 أَوْلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى
 الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ
 يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي
 السَّرَّاءِ وَالْفُرَّاءِ .

ش حضرت عبد اللہ بن عباس رضی
 اللہ تعالیٰ عنہما روایت انت گشیت کہ
 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
 آلہ وسلم پر مائت کہ
 ادلی این شخص کہ لو مگ بنت
 بہشت و نیگ قیامت و روح و
 آہا کس انت کہ اللہ تعالیٰ حمد و ثناء
 گشت بہ خوشحالی و بدحالی و تہا .

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ :
 رَوَايَتُ كَرْتَايَشْرَا أَمَّا سَبِيحِي بِشُعْبِ الْإِيمَانِ
 وَ تَبَا .

عہ یعنی بہر حال و وشی و آسودگی بیت یا سگی و سوری ، آخدا تعالیٰ و
 حمد و ثناء و گشت .

الباب السادس

في فضل العلم والعلماء

سُمي باب به فضيلة علمه وعالماني

شہ کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 روایت انت . گشتیت کہ من گون
 حضرت ابو الدرداء (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)
 بہ مسیت دمشق و نند و کتن کہ آئی
 خدمتہ یک مردہ اہتہ گشت
 آے ابو درداء من تی خدمتہ
 شہ واجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم ۶ شہرہ کائین پہ یک حدیثہ
 کہ من ۶ معلوم بو تہ کہ تو آ شرا شہ
 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 بیان کنے من پہ دگہ بیچ کارے
 نیاتن گشت من تو اشکت شہ واجہ

عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ
 تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا
 مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي
 مَسْجِدِ دِمَشْقٍ فَجَاءَهُ
 رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا
 الدَّرْدَاءِ إِنِّي جِئْتُكَ
 مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 لِحَدِيثٍ بَلَّغَنِي أَنَّكَ تَحَدِّثُهُ
 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ
 قَالَ فَأِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ
 بِهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا
 يَنْتَهِئُ بِهَا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ
 تَتَفَعَّلُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِلطَّالِبِ الْعِلْمِ
 إِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَعْفِرُ لَهُ مِنْ
 نَارِ السَّمَوَاتِ وَهِيَ فِي الْأَرْضِ
 وَالْجِبْطَانُ فِي جُوفِ الْمَاءِ
 إِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ
 فَضْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ
 الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ
 إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرثُوا دِيْنَارًا وَلَا
 دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ
 أَخَذَ بِحَبْلِ وَافِرٍ .

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ
 وَابُدَاوُدُ وَابْنُ مَاجَةَ
 وَالدَّارِمِيُّ .

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کہ پر مات کہ ہر کس سے کہ بروت برا ہے کہ
 طلب کنت برائی یک علم (دین) تو
 باوت آرا اللہ تعالیٰ بہ یک راہے
 شہ رہان جنت سے بیشک پریشنگ
 البتہ تالان کنت اتی پران پہ خوشنودی
 طالب علم سے . بیشک عالم . تو بخشش
 لوٹت پرائی ہر کس سے کہ بہ آسمان ات
 ہر کس سے کہ بہ زمین سے انت سے ماہی بنیام
 آپ سے بیشک فضیلت عالم سے بہ سہرے
 عابد سے پنج انت کہ فضیلت سے بہ شب سے
 چار دہ سے بہ در ہیں استارانی سہرے .
 بیشک علماء وراثت انت نبیانی .
 بیشک نبیان نہ دینار میراث ہشتہ
 نہ درہم سے . آوان صرف علم سے را
 میراث ہشتہ . گرا ہر کس سے کا ایشرا

حاصل کرت آئی یک بار مزنی بہرے حاصل کرت
 روایت کرتے ایشرا امام احمد، امام ترمذی ،
 امام ابوداؤد، امام ابن ماجہ امام دارمی صحیح

الْبَابُ الثَّامِنُ

فِي فَضْلِ الْوُضُوءِ ۲

ہشتمی باب بہ فضیلت ء وضوء .

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
مَنْ تَوَضَّأَ فَاحْسَنَ
الْوُضُوءِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ
مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ
مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ

متفق عليه -

شہ حضرت عثمان رضی
تعالیٰ عنہ روایت انت گشت
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم ء پر مات
ہر کسے ء کہ وضوء کرت گڑا
وضوء کرت۔ در کاینٹ آ
گذیشائی بدن ء۔ تا
در کاینٹ شائی ناہنائی

متفق علیہ -

الباب التاسع

فی فضل الأذان

نہی باب بہ فضیلت بانگ و ...

شہ حضرت ابوسعید خدری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت
انت گشت کہ پر مات جناب
رسول اللہ تعالیٰ ...

علیہ وآلہ وسلم کہ
نہ اشکت دراجی آواز
بانگو و جن و نہ انسان و
و نہ دگر چیز و مگر
کہ شاہدی دنت پرائی روچہ
قیامت و .

روایت کرتہ ایشرا ماک بخاری

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ
الْمُؤَذِّنِ جَنَّةٌ وَلَا
إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا
شَهِدَ لَهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

الباب العاشر

في فضل الصلوة ٢

دہی باب بہ فضیلت ع نماز ع

شہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن
عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما
شہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
آلہ وسلم ع روایت انت (اے ورا
کہ آواجہ ایک روح ع نماز ع را بیان کرتے
گمراہ پر مات کہ ہر کسے ع نگہبانی کرتے ایشی
تو بیت (ہے نماز) پرانی نور ع دلیل
ع ہلاسی ع روح ع قیامت ع ہر کسے
نگہبانی نہ کرتے ایشی ہر تو نہ بیت پرانی
نور ع نہ دلیل ع ہر نہ ہلاسی ع ع بیت
(ہما بے نماز) روح ع قیامت ع گوا
قامون، فرعون، ہامان ع ابی بن خ
روایت کرتے ایشی امام احمد، امام دارمی ع
امام بیہقی ع شعب الایمان ع .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ
الْعَاصِمِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
آلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ
الْصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ
حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبِرْهَانًا
وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يَحْفَظْ
عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بِرْهَانًا
وَلَا نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ
وَهَامَانَ وَابْنِ خَلْفٍ .
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَ
الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ .

الباب الحادى عشر

فی فضل صلوٰۃ الجماعة

یا زوی باب به فضیلت جماعت نماز ۶

شہ حضرت عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت انت
گشت کہ پر مات جناب رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ نماز جماعت بہ فضیلت دارت
بہ ایو کین نماز ہر ہر بیت
ہر ہر بیت در جہ .

روایت کرتے اے حدیث عدا
ہر دو ایسا فان حدیث
یعنی امام بخاری و امام مسلم
رحمہما اللہ تعالیٰ .

عن عبد اللہ بن
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صلوٰۃ الجماعة تفضل
صلوٰۃ الفرد بسبع
وعشرین درجۃ .

رواہ الشیخان

الباب الثاني عشر في فضل صلوة الجمعة

دوازدهم باب به فضیلت عجماء نماز جمعه

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
مَنْ غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
وَأَغْتَسَلَ وَيَتَرَوَّأَتْ كَمَا
وَقَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ
وَدَنَا مِنْ الْأِمَامِ وَأَسْمَعَ
وَلَمْ يَلِغْ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ
عَمَلُ سَنَةِ أَجْرُ مِائَةِ مَرَّةٍ
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابُدَاوُدُ
وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

ح

شہ حضرت اوس بن اوس
رضی اللہ تعالیٰ عنہء گشت
کہ پر مات جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ء کہ
ہر کس (کہ اتی) ہر و پچا پشودیت روح
جماء ء غسل پکنت و مہلہ بروت
واولی ایس وقت ہر بیت ء پیادگ
بروت و سوار بیت و نرینک بیت
شہ امام ء و گوشداریت ء بے ہودگی
مکنت تو بیت پرانی پہ ہر گام ء عمل یک
سالے ۶۰ ثواب آئی روچک و شب خیزی ء
روایت کرتہ ایشر امام ترمذی و امام
ابوداؤد و امام نسائی ء امام ابن ماجہ

الباب الثالث عشر

في فضل صلاة الاشراق والضحى

سيزدگی باب به فیصلت نماز اشراق و چاشت :

شہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ روایت انت گشت کہ
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ
وسلم پیرمات کہ ہر کس و کہ
نکبانی پکنت دوئیس رکعتان
چاشت و بخشگ بنت آئی گناہ
اگرچہ بنت مثل کف و دریاب

روایت کرتے ہیں امام احمد و امام
ترمذی و امام ابن ماجہ رحمہ

بنت ابی ہریرۃ رضی اللہ
الی عنہ قال قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ و الیہ
سلم من حافظ علی
نفعۃ النبی غفر لہ
نوبۃ و ان کانت
تل زبد البحر --

رواہ احمد و الترمذی
و ابن ماجہ -

الباب الرابع عشر

فی فضل الصلوة علی النبی صلی الله علیه وآله وسلم

چاردہمی باب بہ فضیلت ءدُرودءِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ صَلَاتِي وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ

رواه النسائي

شہ واجہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت انت گشیت کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سات کہ ہر کس ءبوایت منی ہر ءیک ءرود ء تو وایت اللہ تعالیٰ برائی ہر ءدہ ءرود ء دور دیگ بیت شائی دہ گناہ ء ہرز کنگ بیت پرائی دہ درجہ

روایت کرتہ ایشر امام نسائی

الباب الخامس عشر

فی فضلِ بناءِ المسجدِ لِلَّهِ تَعَالَى

پازدمی باب به فضیلتِ جوڑکنگِ مسیتِ به اللہ تعالیٰ

عَنْ عُمَانَ بْنِ عَفَانَ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَأَلِيهِ وَسَلَّمَ
مَنْ بَنَى لِي مَسْجِدًا
بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا
فِي الْجَنَّةِ .

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

شہ حضرت عثمان بن عفان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت
انت گشیت کہ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ و آلہ و
سلمہ پر مات کہ ...
ہر کس جو جوڑکنگت پر اللہ تعالیٰ
مسیت جو جوڑکنگت اللہ تعالیٰ
پرانی گس بہ جنت .

متفق علیہ

البَابُ السَّادِسُ عَشَرَ

فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ وَفَرَاتِ الْمَسَاجِدِ

شازدی باب بہ فضیلت نماز بہ مسیت ء ء در جہان مسیتان ۶ ۶

شہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روایت انت . گشتیت کہ پر مات
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم ء کہ نماز مرد ء بہ
گس ء اتی یک نماز بہ برابر ء
انت ء نماز آئی بہ مسیت ء میتگ ء
گوں بیست ء پنج نماز بہ برابرت ء
نماز آئی برامیت ء کہ برائی جماء
نماز وانگ بیت گوں پنصد نماز بہ برابر
انت ء نماز آئی بہ مسیت ء بیت المقدس
گوں پنچہ ہزار نماز بہ برابر انت .

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ
فِي بَيْتِهِ بِصَلَاةٍ وَ
صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِ الْقِبْلِ
خَمْسِينَ وَعِشْرِينَ صَلَاةً
وَصَلَاةً فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي
يُجْمَعُ فِيهِ خَمْسِينَ مِائَةً
صَلَاةً وَصَلَاةً فِي الْمَسْجِدِ
الْأَقْصَى خَمْسِينَ أَلْفَ صَلَاةٍ

وَصَلَوْتُهُ فِي مَسْجِدِي
خَمْسِينَ أَلْفَ صَلَاةٍ
وَصَلَوْتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
بِأَلْفَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ

عُ نَمَازِ آئِي بِمَسْجِدِ عَمَنِي
كُونِ پَنجہ ہزار نَمَازِ عَ بِرَبْرَانَتِ
عُ نَمَازِ آئِي بِمَسْجِدِ حَرَامِ عَ
كُونِ يَكِ لَكْهُ نَمَازِ عَ .

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ رَح

رَوَايَتِ كَرْتَه ايشرا امام ابن ماجه .

عہ علامہ علی القاریؒ مرقاۃ شرح مشکاۃ میں تہا نوشتگ کرتے کہ
میتانی اے مراتب انفرادی نہت بلکہ نسبتی انت یعنی مردم میں نماز بہ گس
یک نماز تو بہ میتگ میں مسیت میں گس میں نماز میں نسبت میں بیسیت و پنج نماز
میں جامع مسیت میں میتگ میں مسیت میں نسبت میں پندرہ میں بیت المقدس
میں جامع مسیت میں نماز میں نسبت میں پنجاہ ہزار نماز میں مسجد نبوی
(علی صاحبہا الصلوۃ والسلام) بیت المقدس میں مسیت میں نسبت میں پنجاہ
ہزار میں مسجد حرام میں مسجد نبوی میں نسبت میں ایک لکھ نماز حساب بیت



الْبَابُ السَّابِعُ عَشَرَ

فِي فَضْلِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى

بِهِ دَمِي بَابٌ بِهِ فَضِّلْتُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى

شہ حضرت ابو ہریرہ ؓ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت انت . گشتت کہ داجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۽ پر مات کہ ننندیت قوم ۽ کہ ذکر ۽ کنت اللہ تعالیٰ ۽ مگر ارد گرد کنت آوان ۽ پریشنگ ۽ پوشیت آوان ۽ رحمت (خدائی) ۽ نازل بیت بر اوانی مر ۽ سیکنہ ۽ یات کنت آوان ۽ اللہ تعالیٰ بما کسانى تہا کہ برائى حضور ۽ بیت . روایت کرتہ ایشرا امام مسلم ۽

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْعَدُ قَوْمٌ يَدُكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا أَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ

عہ ہر سیکنہ آرومان این سکون ۽ آئی دل ۽ سراپہ قسم ۽ غم و پریشانی ۽ حقیقی این اطمینان و دشمنی ات کہ ہر کردین نایت . ۽ کہہ ۽ ڈولیں مصیبت و مشکلات آشہ خدائ طرف بندگان رانصب بیت آئی دیم ۽ پیم ۽ سبک و آسان بنت .

الباب الثامن عشر

فی فضلِ صومِ رمضانِ المعظمِ
 شرمی باب به فضیلتِ و دوچگِ رمضانِ شریفِ

شہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ روایت انت . کہ
 پر مات جناب رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ و آلہ وسلم کہ
 ہر کس نے کہ دوچگ داشت رمضان
 شریف پہ ایمان و ثواب و
 او بیت و بخشگ بنت آئی
 گوز و کیس گناہ ہرچی کہ ہست انت .

روایت کرتہ ایشرا امام بخاری .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
 تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 مَنْ صَامَ رَمَضَانَ
 إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ
 لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ
 وَزُنِيَ .

رواه البخاری .

الباب التاسع عشر

في فضلك صوم النفل مؤ

نوزدی باب به فضیلت و نفلی ایس روچگ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ بَعْدَ اللَّهِ
وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ
سَبَعِينَ خَيْرًا يَفًا.

مستفق عليه .

شہ حضرت ابوسعید خدری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت انت
گشتیت کہ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر مات
کہ ہر کس و کہ روچگ بوت یک روچ
پر خدائی خاترہ دور کنت اللہ
تعالیٰ آئی ذات عشرہ دوزخ
ہیتاد سال و فاصلہ .

متفق علیہ .

الْبَابُ الْعِشْرُونَ

فِي فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَعِيدِ الْفِطْرِ
 بیستی باب بہ فضیلتِ عَ لیلۃ القدر و کسائینِ عیدِ مہ

عَنْ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ
 تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ
 جِبْرَائِيلُ فِي كَتَابَةٍ مِنْ
 الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَى كُلِّ
 عَبْدٍ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ
 اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ
 عِيدِهِمْ يَعْنِي يَوْمَ فِطْرِهِمْ
 بَأْسًا بِهِمْ مَلَائِكَتُهُ فَقَالَ
 يَا مَلَائِكَتِي مَا جِئْتُمْ أَجِيرِي فِي

شہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 روایت انت کہ جناب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مات
 کہ ہر کس کہ لیلۃ القدر بیت
 نازل بیت حضرت جبرئیل علیہ السلام
 گوں یک بولے ملائکاتی درود وانت
 بہر او شتو کیں یا تندو کیں بندگ و سرع
 کہ ذکر عکنت اللہ غالبین و مزنین
 گر ہر کس بیت آوانی عید و روچ یعنی
 روچ آوانی دب بوجی و تو اللہ تعالیٰ پر اوان
 فخر کنت اتی ملکاتی سرع و گشت کہ اے منی
 ملکاتی! چے انت مزیک مزورے کہ پورہ کرتے

عَمَلُهُ قَالُوا رَبَّنَا جَزَاؤُهُ
 أَنْ يُؤْتَىٰ أَجْرَهُ قَالَ ..
 مَلَأْتُكَ بِعَبْدِي وَ
 أَمَانِي تَقْوُوا فَرِيضَتِي عَلَيْهِمْ
 ثُمَّ خَرَجُوا الْعَجُونَ إِلَى
 الدُّعَاءِ وَعِزَّتِي وَ
 حِلَالِي وَكَرَمِي وَ
 مَقْصُودِي وَأَرْتِفَاعِ مَكَانِي
 لَا جَبِينَهُمْ فَيَقُولُ ارْجِعُوا
 قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَبَدَلْتُ
 سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ
 قَالَ فَيَرْجِعُونَ
 بِمَدَدِ الْهُدَى .

اتی کار و راہ گشت اے اے رب
 مُزائی ایش انت کہ پورہ پورہ و یک بیت
 آئی مزدوری گشیت اللہ تعالیٰ اے منی
 ملک ان! منی بندگان و مولدان ادا کرت
 منی فرض و راکہ براوانی سرعیت۔ پدء
 در انگ انت عاجزی کنوک انت
 بہ دعای و قسم انت من منی عزت
 و جلالیت و سخاے و بلندی
 و برزی و منی رتبہ و کراوانی دعای
 ضرور ضرور قبول کنین گڑاپہ پرمائیت
 کہ برترت تحقیق من شمار انجشات
 و بدل کرت شمعہ بریان و گون نیکیاں
 پرمات (واجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم)
 گڑاپہ ترنت براحال و کہ آنجشگ۔

بو تک انت .

روایت کرتے ایشرا امام بیہقی بہ اتی کتاب
 شعب الایمان و تہا .

رواہ البیہقی فی
 شعب الایمان .

الباب الحادى والعشرون

فی فضل الحج لله تعالیٰ

بیت ویکمی باب بفضیلت حج و پیہ خدا تعالیٰ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ لِلَّهِ
فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ
رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ
أُمُّهُ

مرفق و مفسق
مفقو علیہ

شہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ روایت انت کہ پر مات
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم و کہ ہر کسے حج کرت خاص
پہ خداوند تعالیٰ گڈانہ بخش کاری کرت
عزہ فسق و فجور تو برتریت ہما
روج و ڈول و کہ آرا آئی
ماس و پیدا کرتت -
متفق علیہ

الباب الثاني والعشرون

في فضل الأيام العشر الأولى من ذي الحجة

بیت دومی باب بہ فضیلت عشر اولی این (دہیں روچان ذی الحجہ) :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ تَعَالَى
وَأَلِهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْمَلُ
الصَّالِحَ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ
مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْجِهَادُ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَاللَّهِ وَالْجِهَادُ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ حَزَّ
بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ
مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا

رواه البخاري

شہ حضرت عبد اللہ بن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت انت گشتی
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
والہ وسلم پر مات کہ نیست ہرچہ چشم
روح کہ جو این کار بر او انی تھا اللہ تعالیٰ
را زیادہ دوست بیت شہ دہیں
روچاں یعنی شہ ذوالحجہ اولی این دہ
روچاں گشتش (صحابہ آن عرض کوئی یا رسول
اللہ جہاد فی سبیل اللہ ہم نہنت (یعنی آہم
دہیں روچاں بہتر نہنت) پر مات کہ دنہ جہاد
سبیل اللہ مگر مرد کہ درایت گوں اتی جنہ
د مال بگرا واپس میا ریت شیشاں ہرچہ چیز
روایت کرتے ایشہ امام بخاری

الْبَابُ الثَّلَاثُ وَالْعِشْرُونَ فِي فَضْلِ الْأُصْحِيَّةِ مِنْ

بَيْتِ عُمَيْمِي بَابُ بِفَضْلِ عَائِشَةَ وَآسِيْدِي عَمَّ

عَنْ عَائِشَةَ الصِّدِّيقَةِ
 رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ
 قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
 تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ
 عَمَلٍ يَوْمَ النِّجْرِ أَحَبَّ إِلَى
 اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ
 وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ بِصُرُوفِهَا
 وَأَشْعَارِهَا وَأُظْلَافِهَا
 وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ
 بِمَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِالأَرْضِ
 فَطَبِّبُوا بِهَا نَفْسًا
 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

شرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ
 تعالیٰ عنہا مروایت انت کہ جناب رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ع
 پر مات کہ
 نکنت بنی آدم پچھیک چوشین کارے
 روحے پچھیک کوشے یعنی عید الفحی و روحے
 کہ اللہ تعالیٰ کبرے زیادہ دوست بیت
 شریکے ہونے پچھیک بیشک او کیت
 (یعنی ہما ائیدی) روحے قیامتے گون
 اتی شہان و ہودان و سرپکان پچھیک
 آہون البتہ واقع بیت شر اللہ تعالیٰ طرفے
 بہ جہتے قبلتے ہر شے کپگے بہ زمینے
 گرا گون شے دل و دہشعے ایشرا پکنت
 روایت کرتے البشر امام ترمذی و ابن ماجہ

الْبَابُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ

فِي فَضْلِ الْإِنْفَاقِ عَلَى الْعِيَالِ ۞

بیست و ششمی باب بہ فضیلت ۽ خرچ ۽ بہ اہل و عیال ۽ ۞

شہ حضرت ابو سعود رضی اللہ
تعالیٰ عنہ ۽ روایت انت کہ بیشک
واجب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پر مات کہ ہر کدیں خرچ کنت مرواتی
اہل و عیال ۽ ہر ۽ گوں اومیت ۽
نواب ۽ گرا آ پرائی خیرات ۽ شمارتیا

روایت کرتے ایشرا امام بخاری ج.

عَنْ أَبِي سَعُودٍ رَضِيَ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِذَا انْفَقَ الرَّجُلُ
عَلَى أَهْلِهِ يَحْسِبُهَا فَهُوَ
صَدَقَةٌ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ج.

الباب السابع والعشرون

في فضل السخاوة والاسخياء

يست وشمي باب به فضيلت ء سخاوت ء وسخيان ء

عن أبي هريرة رضي الله
تعالى عنه قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم
السخي قريب من الله قريب
من الجنة قريب من الناس
بعيد من النار والبخل
بعيد من الله بعيد من الجنة
بعيد من الناس قريب من النار
ولجاهل سخي أحب إلى الله
من عابد بخل

رواه الترمذي ح

شہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
عنه ء روایت انت کہ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ء پر مات کہ
سخی نرینک انت شہ خدء نرینک انت
شہ جنت ء نرینک انت شہ مردمان .
دوران شہ دوزخ ء ء بخیل دور
انت شہ خدا ، دوران شہ جنت ء
دوران شہ مردمان نرینک انت شہ
دوزخ ء ء البتہ جاہل سخی این
دوست تر انت اللہ تعالیٰ راشہ عابد
بخیلین ء
روایت کرتہ ایشر امام ترمذی ح

الباب الثامن والعشرون

في فضل الدعاء والبرمخلى الله

بیت و مشتمی باب بر فضیلت دعاء و نیکی و گوی مخلوق خدای

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
لَا يَرُدُّ الْقَضَاءُ إِلَّا
الدُّعَاءُ وَالْأَخْيَرُ يُدْ
فِي الْعَمْرِ إِلَّا الْبِرُّ .

شہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ روایت انت کہ جناب رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پر مات کہ
نہ گردینیت قضا و قدرء مگر
دعاء زیادہ نکنت
به عمرء مگر نیکی .

رواه الترمذی

روایت کرتہ ایشرا امام ترمذی

الباب التاسع والعشرون

فی فضل الجهاد فی سبیل اللہ م
 بیست و نہمی باب بہ فقیت ء جہاد ء برہ ء خدائی م

عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ
 تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ...
 لَعْدَاؤِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 أَوْ رُوحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا
 وَمَا فِيهَا

شہ حضرت انس رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم نے فرمایا کہ ...
 البتہ ایک سہیلے دوڑے برہے
 خدائی یا ایک بیگے بہتر انت
 بشر دنیاے عمر ہرچی کہ بر دنیاے
 تہانت .

متفق علیہ .

متفق علیہ .

البَابُ الثَّلَاثُونَ

فِي فَضْلِ الْأَتِّ الْجِهَادِ

شیمی باب بر فضیلت آء اوزار واز بابانی جهاد

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
 اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ
 أَحْتَسَبَ فِرْسَانِي سَبِيلِ
 اللَّهِ إِيْمَانًا بِاللَّهِ وَ
 تَصَدِّيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ
 سَبْعَةَ وَرِيهَ وَرَوْتَهُ وَبَوْلَهُ
 فِي مِيزَانِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ -
 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

شہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ روایت انت کہ جناب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آء پر مات
 کہ ہر کس آء کہ
 براریت اسپ آء برہ آء خدائی (یعنی
 پہ جہاد آء خاطر آء ایمان داروک
 بر اللہ تعالیٰ آء تصدیق کنوک بر وعدہ
 آئی گر ابیشک بیت آ اسپ آء کا، و
 آپ آء لڈوچر و برائی (ہما اسپ داروک)
 شاہیم آء قیامت آء روچ آء .
 روایت کرتہ ایشرا اما بخاری رح .

الباب الحادی والثلاثون

فی فضل الشهداء والشهادة فی سبیل اللہ

عینی باب بہ فضیلت و شہیدان و عہد شہادتہ و بہ عہد خدائی

شہ حضرت مقدم بن معد کرب

رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت انت کہ

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم و پرمات کہ پشہید عہد اللہ تعالیٰ

آر عہد شش درجہ بخشگ بیت۔

پرائی گوں اولی تمیز (ہون) نشان

دیگ بیت آرا آئی جاگ شہ بہشت عہد،

پناہ دیگ بیت شہ عذاب و قبر عہد،

بے غم بیت شہ دہشت عہد مزین عہد،

ایرکنگ بیت بہر عہد آئی تاج عزت عہد

کہ یک یا قوت عہد شائی (مرداروان)

بہرات شہ دنیا عہد ہرچی کہ بہ

دنیا عہد تہا بہشت عہد۔

بن المقدم بن معد کرب

رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال

قال رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم للشہید

سند اللہ ست خصال

عصر لہ فی اولی دفعۃ و

یا مقعدۃ من الجنۃ و

جار من عذاب القبر و

یا من من الفراء الاکبر و

یوضع علی راسہ تاج

الوقار الیا قوتہ مہما

خیر من دنیا وما فیہا

وَيَرْوِّجُ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ
 زَوْجَةً مِّنَ الْحُورِ الْعِينِ
 وَيُشْفَعُ فِي سَبْعِينَ
 مِّنْ أَقْرَبَائِهِ .

عز آروس دیگ بیت ہیتاد و
 جنین شہ حور غینان
 ء قبول کنگ بیت آ ناسپار
 پہ ہیتاد مردمان شائی عزیزتر

روایۃ الترمذی صحیح

روایت کرتے ایشرا امام ترمذی صحیح

البَابُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ

فِي فَضْلِ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ
وَالْحَرَسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ باب به فضیلت عگر بگوئی شہ خوف
خدائی و چو کی داری به ره ع خدائی

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ عَيْنَانِ
بَيْنَهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ
خَشِيَ اللَّهُ وَعَيْنٌ
لَمْ تَحْرَسْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

شہ حضرت عبداللہ بن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت انت
گشت کہ من اشکت شہ جناب رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ
پر مات کہ دو چیم انت کہ آوان
دست نجت (دوزخ) آچ . یک
چم کہ بگریت شہ خوف ع خدائی . ع یک چم
کہ شپ بگوازینت برا حالت ع کہ چو کی بدت
به ره ع خدائی .

روایت کرتہ ایشرا امام ترمذی رح .

رواہ الترمذی رح .

الْبَابُ الثَّلَاثُ وَالثَّلَاثُونَ

فِي فَضْلِ النِّكَاحِ ٣٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِبَابِ بِه فَضِيلَتِ عَ آرُوسِ ع ٤

عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيهِ اللَّهِ
 تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 إِذَا تَرَ وَجَّ الْعَبْدِ فَقَدْ
 اسْتَمَلَكَ نِصْفَ الدِّينِ
 فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي
 النِّصْفِ الْبَاقِي .

شرف حضرت انس رضی اللہ عنہ
 عنہ روایت انت کہ جناب
 رسول کریم صلی اللہ علیہ
 وسلم ع پر مات کہ ہر کہ
 کہ آروس کرت بندگ (تو)
 گرا بہ تحقیق مکمل کرت نیم ع را
 پدا باید انت کہ پتر سیت
 تعالی ع بہ باقی این نیم ع .

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي
 شُعَبِ الْإِيمَانِ

روایت کرتہ ایشرا امام
 بہ (اتی کتاب) شُعَبِ الْإِيمَانِ

الباب الرابع والثلاثون

فی فضل الخلق الحسنه وحسن السلوک بالسئوه
 رسی و چارمی باب به فضیلت و جوانین اخلاق و عونیکیں
 سلوک و گون (اتی) زہگ و زالبولان

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
 تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 أَكْبَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا
 أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَخَيْرًا كُمْ
 خَيْرًا كُمْ لِنِسَائِهِمْ

شہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ روایت انت کہ جناب رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمات کہ
 مومنان میں تمہیں کا بل ترین میں (مردم)
 پر ایمان و لحاظ آوانی جوان ترین انت
 پر اخلاق و روع و عشمے تمہیں شہ ترین
 (مردم) شہ جوان ترین انت گون
 (اتی) زہگ و زالبولان .
 روایت کرتے ایشہ امات ترمذی

رواہ الترمذی

البَابُ الْخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ

فِي فَضْلِ التَّاجِرِ الصَّدُوقِ الْأَمِينِ
سَيِّدِ عِيسَى بَابِ بَهْ فَضِيلَتِهِ رَأْسِ تَكْوِينِ أَمَانَتِهِ
سُودَاكَرِي

شہ حضرت ابوسعید خدری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت انت
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ و آلہ وسلم پر مات کہ
کہ سوداگر راستین و امانت داریں
(یک جہ بیت قیامت) گوں نبیان
و صدیقان و شہیدان .

روایت کرتے ایشرا امام ترمذی رح
ع امام دارقطنی رح

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ
مَعَ النَّبِيِّينَ
وَالْقِدِّيعِينَ وَالشَّهَدَاءِ .

رواه الترمذی رح
والدارقطنی رح

الْبَابُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ

فِي فَضْلِ الْبِرِّ وَالزَّرَاعَةِ وَأَجْرِ الْمَزَارِعِ ۴
 رِسْمٌ شَمْسِيٌّ بَابُ بِرِّ فَضِيلَتِ عَمَّ كَثَتْ وَكُشَارَةٌ
 ۳۰ ثَوَابُ عَمَّ كَاشْتِكَارَةٌ ۳۰

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
 تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
 وَسَلَّمَ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا
 مَيِّتَةً فَلَهُ فِيهَا حَبْرٌ
 وَمَا أَكَلْتَ الْعَافِيَةَ
 مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ ۳۰

شہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 روایت انت کہ جناب رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمات
 کہ ہر کس نے زندگ (آباد) کرت
 یک مر و گیں زمین و را گمراہی پرانی
 بیشی ثواب (مزیں) ...
 عہر چیز کہ بوارت سہدار
 شانی آپرانی خیرات

روایت کرتہ ایشرا امام دارمی ۳۰

الْبَابُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ

فِي فَضْلِ الْعِمَامَةِ

سبع و ہتھی باب بہ فضیلت ۽ پاگ ۽ ۛ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
عَلَيْكُمْ بِالْعِمَامَةِ فَإِنَّهَا
سِيَّمَاءُ الْمَلَائِكَةِ
وَأَرْخُوهَا خَلْفَ ظُهُورِكُمْ

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ
فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ ۛ

شہ حضرت عبادہ بن صامت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۽ روایت انت
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم ۽ پر مات
شمس سر ۽ پاگ لازمی انت پچھو اکرا
(پاگ) ملکانی نشانی انت
۽ ترہ ۽ آئی بلت اتی پشت ۽ بیگ ۽

روایت کرتہ ایشرا امام بیہقی
بہ شعب الایمان ۽ تہا ۛ

الْبَابُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ

فِي فَضْلِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ ۴

پرسی و ہشتمی باب بر فضیلت عیادہ بیمار پرستی ۴

شہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت
انت گشیت کہ من جناب رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادہ را اشکت کہ پر مات
کرنے ہچ چشمیں مسلمان عیادہ بیمار
پرستی پکنت یک مسلمانے ایک سہب ۴
مگر کہ درود وانت آئی سرعہ ہتیا دہزار ملائکہ
تا کہ شام بیت ۴ اگر شام عیادہ بیمار
پرستی رکرت درود وانت آئی سرعہ ہتیا دہزار
ملائکہ تا کہ صہب بیت ۴ عیادہ
پرانی یک باگ ۴ بر جنت ۴
روایت کہ ترا بشر امام ترمذی و امام ابو داؤد

عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ لِيَعُودَ
مُسْلِمًا عُدْوَةً إِلَّا صَلَّى
لِيَّ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ
حَتَّى يَمْسِيَ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً
الْأَصْلَى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ
مَلَكٍ حَتَّى يَصْبَحَ وَكَانَ لَهُ
خَيْرٌ فِي الْجَنَّةِ ۴
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابُو دَاؤُدَ ۴

الباب التاسع والثلاثون

في فضل الاستغفار

رسول و نبی باب بر فضیلت استغفار و بخشش لوگ

(ش خدا تعالیٰ ع)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ
تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَزِمَ
الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ
مُخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا
وَرِزْقًا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

ش حضرت عبد اللہ بن عباس رضی
اللہ تعالیٰ عنہما روایت انت کہ جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پر مانتا کہ ہر کس کے لازم بغیرت استغفار
(یعنی ہمیشہ ش خدا بخشش و معافی بلوٹیتا)
کتا اللہ تعالیٰ پر الی ش ہر تنگی و درتن
راہ و ش ہر مشکل و کشادگی و عوز
دنتا ش ہر نہیں جائے و کر بچ گمان
نکنت۔

رواہ احمد و ابوداؤد و
وابن ماجہ

روایت کرتے ایشرا امام احمد و امام ابوداؤد
ع امام ابن ماجہ۔ رحمہم اللہ تعالیٰ

الباب الرابعون

فی فضل اسماء الله الحسنى ۴۰
 در فضیلتی باب به فضیلت ع اسم الله تعالی و اسم حسنی ۱

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
 تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ
 وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً
 وَتِسْعِينَ اسْمًا بِأَمْرِ الْأَوَّلِ
 مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ
 وَفِي بَيِّنَاتٍ وَهُوَ وَتَسْرٍ
 يُحِبُّ الْوَسْرَ .

متفق علیه ۱

شہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول
 اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
 فرماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے ۹۹
 نام (یعنی) ایک کم صد
 ہر کس نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں
 داخل ہوگا۔ اور اس میں سے ایک نام ہے
 کہ آتمائے دوست داریتائے۔

متفق علیہ ۱

الْحَاتِمَةُ

فِي تَفْضِيلِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى .
خاتمه به فضیلت ع الله تعالی و لیان ۶ ۴۷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ
عَادَى لِي وَوَلِيًّا فَقَدْ آذَنَهُ
بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ
عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا
انْتَرَفَتْ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ
عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوْافِلِ
حَتَّى أَحْبَبْتُهُ فَإِذَا . . .

شہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
عندہ روایت انت کہ پر مات جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ بیشک اللہ تعالیٰ ع پر مائیت کہ ہر کس
کہ دشمن بداریت منی ولی عرا اگر امن تحقیق
آڑا (الی) جنگ و اعلان ع دین . ع نمینکی
حاصل نکتہ منی نیگ ع منی بندگ گوں بیج
چشیں چیزے ع کہ دوست تربیت من ع
شا چیزاں کہ من برائی مرع فرض کرنگ انت
ع ہمیشہ منی بندگ منی نمینکی ع حاصل کنت
گوں نفلان تاکہ آڑا من دوست دارین

احبته فكنت سمعه الذي
 يسمع به وبصره الذي
 يبصر به ويده التي
 تطش بها ورجله
 التي يمشي بها وان
 سألني لاعطينه ولئن
 استعاذني لاعيدنه
 وما تردت عن شيء
 انا فاعله ترددي عن
 نفس المؤمن يكره الموت
 وانا اكره مسأله
 ولا بد له منه ه

رواه البخاري ج ٢

گزاهر کدین که آرا من دوست در داشت
 گزاهر من بین (یعنی منی قدرت بیت) آئی گوش
 که پرائیء کشکت ء من آئی چم بین که پرائیء
 گندتیا ء آئی دست بین که پرائیء گیت ء آئی
 پا و بین که پرائیء گردیت ء اگر شمن ...
 بلویت من آرا البتہ ضرور عطاے کنین .
 و اگر منی آدء پناه بلویت البتہ ضرور آرا پناہ دین
 ء من تردد نہ کنین بہ ہچ یک چیزے ء
 کہ من آرا انوک ان چو کہ منی تردوات
 بہ مو من ء ساه ء معاملہ ء کہ امرگ ء
 ناوش کنت ء من آئی خفگی ء ناپسند کنین
 حالانکہ آرا شائی ہچ چارگ نہ نیست .

روایت کرتے ایشرا امام بخاری ج ٢

۱۷ نکتہ شہ متشابہات
 فی الکفیت آن شمار بیت .

۱۷ یعنی شہ مرگ ء .

هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى قَائِدِ الْمُرْسَلِينَ وَ
 خَاتِمِ النَّبِيِّنَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ الطَّيِّبِينَ
 الطَّاهِرِينَ وَاَزْوَاجِهِ الطَّيِّبَاتِ الطَّاهِرَاتِ اُمَّهَاتِ
 الْمُؤْمِنِينَ وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ
 وَالصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ اَجْمَعِينَ وَاَتَابِعِهِمْ بِالْاِحْسَانِ
 اِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَعَلَى اَيُّمَةِ الْمُسْلِمِيْنَ
 مِنَ الْمُفَسِّرِيْنَ وَالْمُحَدِّثِيْنَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُجْتَهِدِيْنَ
 وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ الْمُخْلِصِيْنَ.



ابو يحيى عيني البلوصي الخاراني
 عفى عنه ما مضى

منه

٢٩

قوات پریمی کوزا